

اپریل، 2017

عزیز والدین / سرپرست:

ہمارے والدین اور سرپرست تعلیم میں ہمارے سب سے اہم شراکت دار ہیں اور ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (York Region District School Board) تمام والدین اور سرپرستوں کو 1 مئی اور 19 مئی 2017 کے دوران ایک سروے مکمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ سروے والدین/سرپرستوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے اہم موقع فراہم کرتا ہے اور اس کے نتائج طلباء کی کامیابیوں اور خیر و عافیت کی منصوبہ بندی میں مدد کیلئے استعمال ہوں گے۔

یہ سروے بورڈ امپروومنٹ پلان (Board Improvement Plan) کی ترجیحات سے مطابقت رکھتا ہے اور اس میں اسکول کے تعلیمی ماحول، ریاضی (mathematics)، طلباء کی ذہنی نشوونما اور خیر و عافیت، مساوات اور شمولیت اور اسکولوں میں نگہداشت اور تحفظ کے بارے میں سوالات شامل ہیں۔ یہ سروے اونٹاریو ایجوکیشن ایکٹ (Ontario Education Act) کے ضابطہ کے تحت ہے اور وزارت تعلیم (Ministry of Education) کے اسکولوں کے ماحول سے متعلق سروے کروانے کے قانون کے تحت ہے۔

اس سروے کو مکمل کرنے میں تقریباً 15 منٹ لگیں گے۔ انگریزی (English) میں یہ سروے آن لائن دستیاب ہے : <https://www.surveymonkey.com/r/yrdsb2017ParentSurvey>۔ کاغذ پر یہ سروے انگلش

(English)، سمپلیفائیڈ چائنیز (Simplified Chinese)، ٹرڈیشنل چائنیز (Traditional Chinese)، فارسی (Farsi)، گجراتی (Gujarati)، ہیبرو (Hebrew)، کورین (Korean)، پنجابی (Punjabi)، رشین (Russian)، سری لنکن تامل (Sri Lankan Tamil)، اردو (Urdu) اور ویت نامیز (Vietnamese) زبان میں موجود ہیں۔ کاغذ پر سروے فارم حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کاغذ پر سروے فارم مکمل کرنے کا انتخاب کریں تو برائے مہربانی اسے مہیا کردہ لفافے میں ڈال کر اسکول کو واپس کر دیں۔

ہم والدین/سرپرستوں کی رائے کی قدر کرتے ہیں اور 19 مئی سے قبل سروے مکمل کرنے کیلئے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کی مہیا کردہ معلومات گمنام رہیں گی، خفیہ سمجھی جائیں گی اور صیغہ راز میں رکھنے کیلئے تمام متعلقہ قوانین کی سختی سے پابندی کی جائے گی۔ آپ ایک بچے کے لئے ایک سروے فارم مکمل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

سروے کے نتائج موسم خزاں کے آخری ایام میں آپ کے اسکول کی/کے پرنسپل کے ذریعے مہیا کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو برائے مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔ آپ کی مدد کا شکریہ۔

مخلص/مخلصہ،